

Date: 8-May-2024

News Coverage of Press Release

“CCP Takes PTCL-Telenor Merger to Second Phase Review”

PTCL acquiring Telenor, Orion

CCP initiates phase-II review

RECORDER REPORT

ISLAMABAD: The Competition Commission of Pakistan (CCP) has concluded the first phase review of the pre-merger application. The transaction entails Pakistan Telecommunication Company Limited (PTCL) acquiring 100% shareholding of Telenor Pakistan (Private) Limited (TP) and Orion Towers Private Limited (OT) from Telenor Pakistan BV (TPBV).

The CCP's Phase-I review shows that the proposed transaction meets the presumption of dominance as defined in the Competition

Act, 2010. Consequently, a Phase-II review has been initiated to thoroughly analyze the effect on competition in the telecom sector as well as telecom services to consumers in Pakistan.

CCP has identified the relevant product markets as Retail LDI Fixed-line Telecommunication Market, Retail Mobile Telecommunication Market, Wholesale Domestic Leased Lines, Wholesale IP Bandwidth and Individual Mobile/Fixed Interconnect within the geographic market of Pakistan.

The Phase-II review is a rare yet necessary move by

the CCP.

The CCP took a similar stance of comprehensive competition analysis in the Mobilink and Warid merger application.

The Mobilink and Warid merger also highlighted competition concerns in areas of spectrum concentration, infrastructure sharing, non-compete obligations, and joint control. CCP imposed certain conditions as to how the merged entities would conduct their business post transaction. It was successfully approved with some conditions to ensure consumer protection.

CCP concludes first phase review of PTCL-Telenor pre-merger application

OUR STAFF REPORTER
ISLAMABAD

The Competition Commission of Pakistan (CCP) has concluded the first phase review of the pre-merger application.

The transaction entails Pakistan Telecommunication Company Limited (PTCL) acquiring 100% shareholding of Telenor Pakistan (Private) Limited (TP) and Orion Towers Private Limited

(OT) from Telenor Pakistan BV (TPBV).

CCP's Phase-I review shows that the proposed transaction meets the presumption of dominance as defined in the Competition Act, 2010. Consequently, a Phase II review has been initiated to thoroughly analyze the effect on competition in the telecom sector as well as telecom services to consumers in Pakistan. CCP has identified the relevant product markets as Retail LDI

Fixed-line Telecommunication Market, Retail Mobile Telecommunication Market, Wholesale Domestic Leased Lines, Wholesale IP Bandwidth and Individual Mobile/Fixed Interconnect within the geographic market of Pakistan.

The Phase II review is a rare yet necessary move by the CCP. It is pertinent to mention that CCP took a similar stance of comprehensive competition analysis in the Mobilink and Warid

merger application. The Mobilink and Warid merger also highlighted competition concerns in areas of spectrum concentration, infrastructure sharing, non-compete obligations, and joint control. CCP imposed certain conditions as to how the merged entities would conduct their business post transaction. It was successfully approved with some conditions to ensure consumer protection.

PTCL اور ٹیلی نار کا انضمام پہلے مرحلے کا جائزہ مکمل

اسلام آباد (ارشاد انصاری سے) مسابقتی کمیشن (سی سی پی) نے پی ٹی سی ایل اور ٹیلی نار کے انضمام کے پہلے مرحلے کا جائزہ مکمل کر لیا، سی سی پی کے مطابق اس سودے (باقی صفحہ 7 نمبر 4)

مسابقتی کمیشن

میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ ٹیلی نار پاکستان لمیٹڈ اور اورین ٹاورز لمیٹڈ کے 100 فیصد شیئر ہولڈنگ حاصل کر لے گی، پہلے مرحلے کا جائزہ ظاہر کرتا ہے کہ مجوزہ سودا کمپنیشن ایکٹ 2010 کے اجارہ داری سے متعلق مفروضے پر پورا اترتا ہے، اسلئے دوسرے مرحلے کا جائزہ شروع کیا گیا ہے۔

PTCL، ٹیلی نار انضمام کو دوسرے

مرحلے کے جائزہ پر لے جانے کا اعلان

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) کمپنیشن کمشن آف پاکستان (سی سی پی) نے مرجر کا فیئر 1 جائزہ مکمل کر لیا ہے۔ اس ٹرانزیکشن میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ، ٹیلی نار (باقی صفحہ 6 بقیہ نمبر 44)

44

جائزہ اعلان

اصف

پاکستان بی وی سی ٹیلی نار پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور اورین ٹاورز پرائیویٹ لمیٹڈ کی 100% شیئر ہولڈنگ حاصل کرے گی۔ سی سی پی کا فیئر 1 جائزہ ظاہر کرتا ہے کہ مجوزہ ٹرانزیکشن کمپنیشن ایکٹ 2010 میں بیان کردہ بالادستی کے مفروضے پر پورا اترتا ہے۔ اس لئے فیئر 2 کا جائزہ شروع کیا گیا ہے تاکہ ٹیلی ٹیلی کام سروسز میں کمپنیشن اور ٹیلی کام سیکٹر کے پاکستانی صارفین پر پڑنے والے اثرات کا بخوبی تجزیہ کیا جاسکے، سی سی پی نے اس سلسلے میں ریٹیل ایل ڈی آئی فکسڈ لائن ٹیلی کمیونیکیشن مارکیٹ، ریٹیل موبائل ٹیلی کمیونیکیشن مارکیٹ، ہول سیل ڈومیسٹک لیزڈ لائنز، ہول سیل آئی پی بینڈوڈتھ اور انفرادی موبائل/فکسڈ انٹر کنیکٹ کو پاکستانی جغرافیائی حدود میں متعلقہ براڈ کاسٹ مارکیٹ قرار دیا ہے۔

بی بی سی ایل سٹیٹ لائن کے انضمام کو دو مرحلے کے جائزہ پر بیجان کا اعلان

موبلی لنک اور وارڈ انضمام نے بھی سیکٹرم کے ارتکاز غیر مسابقتی ذمہ داریوں، اور مشترکہ کنٹرول کے شعبوں میں خدشات کو ابھارا تھا

اسلام آباد (نامہ نگار خصوصی) کمپنیشن کمیشن آف پاکستان (سی سی پی) نے مریٹر کا فیز 1 جائزہ مکمل کر لیا ہے۔ اس ٹرانزیکشن میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ، ٹیلی نار پاکستان پی وی سے ٹیلی نار پاکستان (پرائیویٹ) (لمیٹڈ اور اورین ٹاورز پرائیویٹ لمیٹڈ کی (باقی صفحہ 6 بقیہ نمبر 49)

49

سی سی پی

بقیہ

100% شیئر ہولڈنگ حاصل کرے گی۔ سی سی پی کا فیز 1 جائزہ ظاہر کرتا ہے کہ مجوزہ ٹرانزیکشن کمپنیشن ایکٹ 2010 میں بیان کردہ بالادستی کے مفروضے پر پورا اترتا ہے۔ اس لئے فیز 2 کا جائزہ شروع کیا گیا ہے تاکہ ٹیلی ٹیلی کام سروسز میں کمپنیشن اور ٹیلی کام سیکٹرم کے پاکستانی صارفین پر پڑنے والے اثرات کا بخوبی تجزیہ کیا جاسکے۔ سی سی پی نے اس سلسلے میں ریٹیل ایل ڈی آئی فکسڈ لائن ٹیلی کمیونیکیشن مارکیٹ، ریٹیل موبائل ٹیلی کمیونیکیشن مارکیٹ، ہول سیل ڈومیسٹک لیزڈ لائنز، ہول سیل آئی پی ہینڈوڈھ اور انفرادی موبائل / فکسڈ انٹرنیٹ کو پاکستانی جغرافیائی حدود میں متعلقہ پراڈکٹ مارکیٹ قرار دیا ہے۔ سی سی پی کا فیز 2 کا جائزہ ایک نادر لیکن ضروری اقدام ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سی سی پی نے موبلی لنک اور وارڈ کے انضمام کی درخواست میں جامع کمپنیشن تجزیہ میں بھی یہی موقف اپنایا۔

پی ٹی سی ایل، ٹیلی نار انضمام کا فیرون جائزہ مکمل کر لیا گیا

ٹیلی نار اور مین ٹاورز پرائیویٹ لمیٹڈ کی 100% شیئر ہولڈنگ حاصل کرے گی

اسلام آباد (آئین نیوز) کپٹیشن کمیشن آف پاکستان اس ٹرانزیکشن میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ (سی سی پی) نے مرجر کا فیرون 1 جائزہ مکمل کر لیا ہے۔ ، ٹیلی نار پاکستان بی وی سے (بقیہ نمبر 57 صفحہ 7)

CCP takes PTCL-Telenor merger to second phase review

07/05/2024

148

ISLAMABAD, MAY 7: The Competition Commission of Pakistan (CCP) has concluded the first phase review of the pre-merger application. The transaction entails Pakistan Telecommunication Company Limited (PTCL) acquiring 100% shareholding of Telenor Pakistan (Private) Limited (TP) and Orion Towers Private Limited (OT) from Telenor Pakistan BV (TPBV).

CCP's Phase-I review shows that the proposed transaction meets the presumption of dominance as defined in the Competition Act, 2010. Consequently, a Phase II review has been initiated to thoroughly analyze the effect on competition in the telecom sector as well as telecom services to consumers in Pakistan.

CCP has identified the relevant product markets as Retail LDI Fixed-line Telecommunication Market, Retail Mobile Telecommunication Market, Wholesale Domestic Leased Lines, Wholesale IP Bandwidth and Individual Mobile/Fixed Interconnect within the geographic market of Pakistan.

The Phase II review is a rare yet necessary move by the CCP. It is pertinent to mention that CCP took a similar stance of comprehensive competition analysis in the Mobilink and Warid merger application. The Mobilink and Warid merger also highlighted competition concerns in areas of spectrum concentration, infrastructure sharing, non-compete obligations, and joint control. CCP imposed certain conditions as to how the merged entities would conduct their business post transaction. It was successfully approved with some conditions to ensure consumer protection.

<https://islamabadpost.com.pk/ccp-takes-ptcl-telenor-merger-to-second-phase-review/>

8-May-2024

Online News Paper

CCP Takes PTCL-Telenor Merger to Second Phase Review

By News Desk May 8, 2024 0 41



ISLAMABAD: The Competition Commission of Pakistan (CCP) has concluded the first phase review of the pre-merger application. The transaction entails Pakistan Telecommunication Company Limited (PTCL) acquiring 100% shareholding of Telenor Pakistan (Private) Limited (TP) and Orion Towers Private Limited (OT) from Telenor Pakistan BV (TPBV).

CCP's Phase-I review shows that the proposed transaction meets the presumption of dominance as defined in the Competition Act, 2010. Consequently, a Phase II review has been initiated to thoroughly analyze the effect on competition in the telecom sector as well as telecom services to consumers in Pakistan.

CCP has identified the relevant product markets as Retail LDI Fixed-line Telecommunication Market, Retail Mobile Telecommunication Market, Wholesale Domestic Leased Lines, Wholesale IP Bandwidth and Individual Mobile/Fixed Interconnect within the geographic market of Pakistan.

The Phase II review is a rare yet necessary move by the CCP. It is pertinent to mention that CCP took a similar stance of comprehensive competition analysis in the Mobilink and Warid merger application. The Mobilink and Warid merger also highlighted competition concerns in areas of spectrum concentration, infrastructure sharing, non-compete obligations, and joint control. CCP imposed certain conditions as to how the merged entities would conduct their business post transaction. It was successfully approved with some conditions to ensure consumer protection.

<https://dailyspokesman.net/live/ccp-takes-ptcl-telenor-merger-to-second-phase-review/>

CCP Takes PTCL-Telenor Merger to Second Phase Review

BUSINESS

REPORTER

ISLAMABAD

The Competition Commission of Pakistan (CCP) has concluded the first phase review of the pre-merger application. The transaction entails Pakistan Telecommunication Company Limited (PTCL) acquiring 100% shareholding of Telenor Pakistan (Private) Limited (TP) and Orion Towers Private Limited (OT) from Telenor Pakistan BV (TPBV).

CCP's Phase-I review shows that the proposed transaction meets the presumption of dominance as defined in the Competition Act, 2010. Consequently, a Phase II review has been initiated to thoroughly analyze the effect on competition in the telecom sector as well as telecom services to consumers in

Pakistan.

CCP has identified the relevant product markets as Retail LDI Fixed-line Telecommunication Market, Retail Mobile Telecommunication Market, Wholesale Domestic Leased Lines, Wholesale IP Bandwidth and Individual Mobile/Fixed Interconnect within the geographic market of Pakistan.

The Phase II review is a rare yet necessary move by the CCP. It is pertinent to mention that CCP took a similar stance of comprehensive competition analysis in the Mobilink and Warid merger application. The Mobilink and Warid merger also highlighted competition concerns in areas of spectrum concentration, infrastructure sharing, non-compete obligations, and joint control. CCP imposed certain conditions as to how the merged entities would conduct their business post transaction.

CCP Advances Telenor-PTCL Merger to Final Phase

By ProPK Staff | Published May 7, 2024 | 5:18 pm

The Competition Commission of Pakistan (CCP) has advanced the merger application of Telenor Pakistan with PTCL to the next phase, granting the essential preliminary approvals required for the merger to proceed.

As reported by ProPakistani, the proposed merger between Telenor and PTCL has successfully passed the initial review by the CCP and has now entered the second and final phase.

Following this phase, the antitrust body is expected to provide final approval for the merger.

Industry insiders suggest that if the CCP intends to reject a merger, such a decision typically occurs during the first phase. The progression of the Telenor-PTCL merger to the second phase strongly indicates a likely approval.

The first phase is critical as it assesses the post-merger market dynamics, potential impacts on consumers and other industry stakeholders. Advancing past this phase suggests that the CCP believes the merger is unlikely to adversely affect market competition significantly.

It is noteworthy that a similar procedural path was followed in the Warid-Mobilink merger, which also moved to the second phase after initial approval.

The CCP's notes from the first phase approval of the [Warid-Jazz merger](#) had highlighted concerns about potential competition elimination, which closely mirrors the concerns noted in the Telenor-PTCL merger's documentation. However, these concerns are the basis of moving the application to phase 2 for more deliberation.

Not to mention, PTCL applied with CCP for a merger with Telenor earlier this year.

An outcome of this mandatory approval from CCP is expected within the next two months, after which the merger application will move to the Pakistan Telecommunication Authority (PTA) for other needed regulatory approvals.

Not to mention, the entire length of the merger of both companies could take up to 18 to 24 months after PTA's green light.

<https://propakistani.pk/2024/05/07/ccp-advances-telenor-ptcl-merger-to-final-phase/>

CCP Takes PTCL-Telenor Merger to Second Phase Review



By **Kazim Raza Rizvi**

MAY 7, 2024 #CCP Takes, #Mobilink-Warid merger, #PTCL-Telenor Merger, #Second Phase Review

ISLAMABAD: The Competition Commission of Pakistan (CCP) has concluded the first phase review of the pre-merger application. The transaction entails Pakistan Telecommunication Company Limited (PTCL) acquiring 100% shareholding of Telenor Pakistan (Private) Limited (TP) and Orion Towers Private Limited (OT) from Telenor Pakistan BV (TPBV).

CCP's Phase-I review shows that the proposed transaction meets the presumption of dominance as defined in the Competition Act, 2010. Consequently, a Phase II review has been initiated to thoroughly analyze the effect on competition in the telecom sector as well as telecom services to consumers in Pakistan.

CCP has identified the relevant product markets as Retail LDI Fixed-line Telecommunication Market, Retail Mobile Telecommunication Market, Wholesale Domestic Leased Lines, Wholesale IP Bandwidth and Individual Mobile/Fixed Interconnect within the geographic market of Pakistan.

The Phase II review is a rare yet necessary move by the CCP. It is pertinent to mention that CCP took a similar stance of comprehensive competition analysis in the Mobilink and Warid merger application. The Mobilink and Warid merger also highlighted competition concerns in areas of spectrum concentration, infrastructure sharing, non-compete obligations, and joint control. CCP imposed certain conditions as to how the merged entities would conduct their business post transaction. It was successfully approved with some conditions to ensure consumer protection.

<https://customnews.pk/2024/05/07/ccp-takes-ptcl-telenor-merger-to-second-phase-review/>

8-May-2024

Online

سی سی پی پی کا پی ٹی سی ایل؟ ٹیلی نار انضمام کو دوسرے مرحلے کے جائزے پر لے جانے کا اعلان

24-05-2024 / 241--h# سی سی پی پی کا پی ٹی سی ایل؟ ٹیلی نار انضمام کو دوسرے مرحلے کے جائزے پر لے جانے کا اعلان #h/ {اسلام آباد (آن لائن) کمپنیشن کمیشن آف پاکستان (سی سی پی) نے مہر کا فیہ 1 جائزہ مکمل کر لیا ہے۔ اس ٹرانزیکشن میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ، ٹیلی نار پاکستان بی وی سے ٹیلی نار پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور اورین ٹاورز پرائیویٹ لمیٹڈ کی 100٪ شیئر ہولڈنگ حاصل کرے گی۔

سی سی پی کا فیہ 1 جائزہ ظاہر کرتا ہے کہ مجوزہ ٹرانزیکشن کمپنیشن ایکٹ 2010 میں بیان کردہ بالادستی کے مفروضے پر پورا اترتا ہے۔ اس لئے فیہ 2 کا جائزہ شروع کیا گیا ہے تاکہ ٹیلی ٹیلی کام سروسز میں کمپنیشن اور ٹیلی کام سیکٹر کے پاکستانی صارفین پر پڑنے والے اثرات کا بخوبی تجزیہ کیا جاسکے۔ سی سی پی نے اس سلسلے میں ریٹیل ایل ڈی آئی فیکڈ لائن ٹیلی کمیونیکیشن مارکیٹ، ریٹیل موبائل ٹیلی کمیونیکیشن مارکیٹ، ہول سیل ڈومیسٹک لیڈ لائنز، ہول سیل آئی پی بینڈوڈتھ اور انفرادی موبائل / فیکڈ انٹر کنیکٹ کو پاکستانی جغرافیائی حدود میں متعلقہ پراڈکٹ مارکیٹ قرار دیا ہے۔

سی سی پی کا فیہ 2 کا جائزہ ایک نادر لیکن ضروری اقدام ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سی سی پی نے موبی لنک اور وارد کے انضمام کی درخواست میں جامع کمپنیشن تجزیہ میں بھی یہی موقف اپنایا۔ موبی لنک اور وارد کے انضمام نے بھی سیکٹرم کے ارتکاز، بنیادی ڈھانچے کے اشتراک، غیر مسابقتی ذمہ داریوں، اور مشترکہ کنٹرول کے شعبوں میں کمپنیشن غدشات کو ابھارا تھا۔ سی سی پی نے کچھ شرائط عائد کیں کہ ضم شدہ ادارے ٹرانزیکشن کے بعد کاروبار کیسے کریں گے۔ اور پھر صارفین کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے اسے کچھ شرائط کے ساتھ کامیابی کے ساتھ منظور کیا گیا۔

<https://www.urdupoint.com/daily/livenews/2024-05-07/news-4009059.html>